

ROOTWORDS OF SURAH AN NISA 100-104

ضَرْبٌ+تُمْ	وَقَعَ	يُدْرِكُهُ	سَعَةً	مُرَاغَمًا
ض ر ب + ضمیر	وق ع	د ر ک + ضمیر	و س ع	ر غ م
سفر کرو + تم	ثابت ہو گیا	پالے + اس کو	وسعت	جائے پناہ
you travel	(became) incumbent	overtakes him	abundance	place(s) of refuge

وَرَأَى+كُمُ	أَسْلِحَتَ+هُمُ	فَ+أَقَمْتِ	يَفْتِنَ+كُمُ	تَقْصُرُ-وَا
و ر ی - جمع	س ل ح + ضمیر	حرف + ق و م + ضمیر	ف ت ن + ضمیر	ق ص ر - جمع
پہچھے + تمہارے	اسلحہ + اپنا	تو + قائم کریں + آپ	فتنے میں ڈالیں + تم کو	تم کمی کر لو
The ones who sit	their arms	and you lead	(may) harm you	you shorten

حِذْرٌ+كُمُ	تَضَعُ-وَا	مَيْلَةً	فَ+يَمِيلُ-وَنَ	أَمْتِعَتِ+كُمُ
ح ذ ر + ضمیر	و ض ع - جمع	م ی ل	حرف + م ی ل - جمع	م ت ع + ضمیر
بچاؤ + اپنا	تم رکھ دو	حملہ کرنا - جھکنا	تو + وہ جھک پڑیں - حملہ کریں	ساز و سامان سے + اپنے
your precautions	you lay down	(in) an attack	so (that) they (can) assault	and your baggage

مَوْقُوتًا	أَطْمَأَنَّ + تُمْ	جُنُوبٍ + كُمْ	قُعُودًا	مُّهِينًا
وقت	طم ن + ضمیر	ج ن ب + ضمیر	ق ع د	ہ و ن
وقت کی پابندی کے ساتھ	اطمینان میں آجاؤ + تم	پہلوؤں کے + اپنے	بیٹھے ہوئے	رسوا کن
(at) fixed times	you are secure	your sides	and sitting	humiliating

يَرْجُ-وْنَ	تَأَلَّمَ-وْنَ	تَهْنُ-وَا
رج و- جمع	أل م- جمع	وہ ن- جمع
وہ امید رکھتے	تکلیف اٹھاتے	تم سستی کرو۔ کمزوری دکھاؤ
they hope	suffering	be weak